

برائے فوری اجراء

**برامپٹن نے کووڈ-19 کی ہنگامی حالت کے دوران طبی عملے کی گنجائش میں اضافے کے لیے  
معاونت کی درخواست کر دی**

برامپٹن، آن (8 اپریل 2020) – آج میٹنگ کے دوران، برامپٹن سٹی کونسل نے اہل، غیر ملکی تربیت یافتہ ڈاکٹرز کی کووڈ-19 کی ہنگامی حالت کے دوران صف اول پر کام کرنے کی درخواستوں کی حمایت کرتے ہوئے نگہداشت صحت کی مقامی گنجائش کو بڑھانے میں مدد دینے کے لیے ہدایات کی منظوری دے دی۔

سٹی کونسل نے میئر پیٹرک براؤن اور کونسلر شامین ولیمز کی جانب سے لکھے گئے خطوط کی توثیق کر دی ہے۔ سٹی پورے اونٹاریو کی میونسپلٹیوں اور ٹاؤن شپس کے ساتھ کونسل کی قرارداد بھی شیئر کرے گا، جس میں اونٹاریو کے وزیر صحت اور پریمیئر آف اونٹاریو کو خطوط لکھ کر معاونت کی درخواست کی جائے گی۔

کونسل، حکومت اونٹاریو کی جانب سے گذشتہ روز اپنے نئے آن لائن ٹول، جو صف اول کے ماہر کارکنان کو آجروں اور تنظیموں کے ساتھ مربوط کرتا ہے، کے اعلان کا خیر مقدم کرتی ہے اور سمجھتی ہے کہ یہ کووڈ-19 کے خلاف لڑائی میں ایک انتہائی اہم قدم ہے۔

24 مارچ کو سٹی کونسل کے ساتھ مشاورت کے بعد اور سٹی کی ایمرجنسی مینجمنٹ ٹیم کی سفارش پر، میئر پیٹرک براؤن نے سٹی کے ایمرجنسی مینجمنٹ پلان کے تحت سٹی آف برامپٹن میں ہنگامی حالت کا اعلان کیا تھا۔ اس کے بعد سے، سٹی نے کمیونٹی کی صحت و سلامتی کو محفوظ رکھنے میں مدد دینے کے لیے فوری اور بے مثال اقدامات اٹھائے ہیں۔

**لنکس**

- [24 مارچ 2020 – سٹی آف برامپٹن نے کووڈ-19 کے ردعمل میں ہنگامی حالت کا اعلان کیا](#)
- [7 اپریل – کووڈ-19 کے خلاف ردعمل کے حوالے سے سٹی آف برامپٹن کی اپ ڈیٹ](#)

**اقتباسات**

"پورے صوبے اور برامپٹن میں، ایسے ہزاروں غیر ملکی تعلیم یافتہ ڈاکٹر اور نرسیں موجود ہیں، جو کووڈ-19 کی ہنگامی حالت میں محاذ پر اترنے اور مدد کرنے کے لیے تیار اور رضامند ہیں۔ جیسا کہ تصدیق شدہ کیسز کی تعداد ہر روز بڑھنا جاری ہے، ہم ان قابل لوگوں کی صلاحیتوں کو استعمال نہ کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے – کیونکہ یہ زندگیاں بچانے کا معاملہ ہے۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"برامپٹن اس عظیم مقصد میں ایک رہنما مقام حاصل کر رہا ہے۔ ہم اب دوسرے شہروں اور قصبوں کو پکار رہے ہیں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اس عالمی وباء سے لڑنے کے لیے ہر روز سامنے آنے والے نگہداشت صحت کے ماہرین ہماری تعریف کے مستحق ہیں، مگر انہیں ہماری مدد کی بھی ضرورت ہے۔ ہمیں اہل، غیر ملکی تربیت یافتہ ڈاکٹرز کو دور رکھنے کی بجائے ان کے ساتھ صف اول میں شامل ہو کے انہیں وہ مدد فراہم کرنی ہو گی، جس کی انہیں ضرورت ہے۔"

- شامین ولیمز، ریجنل کونسلر، وارڈز 7 اور 8، سٹی آف برامپٹن

-30-

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 650,000 لوگوں اور 70,000 کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم ایک صحت مند شہر کی تعمیر میں بڑھوتری کے لیے مل کر کام کرتے ہیں، جو محفوظ، قابل استحکام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ [ٹویٹر](#)، [فیس بک](#) اور [انسٹاگرام](#) پر مربوط ہوں۔ [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)